

مشق نمبر ۵۶

اسماء الوان والعیوب

دیے گئے افعال سے ان کی صفت (الوان والعیوب) بنا کر
خوبی گردان کریں۔

جر	نصب	رفع	عدد	نیکم - اُنیکم
اُنیکم	اُنیکم	اُنیکم	واحد	مذکر
اُنیکمین	اُنیکمین	اُنیکمان	ثنیہ	"
نیکم	نیکم	نیکم	جمع	"
نیکماء	نیکماء	نیکماء	واحد	مؤنث
نیکماوین	نیکماوین	نیکماوان	ثنیہ	"
نیکم	نیکم	نیکم	جمع	"

Samra Khalil Uppal

فَضْر - اَفْضَرُ

جر	نصب	رفع	عدد	فَضْر - اَفْضَرُ
اَفْضَرُ	اَفْضَرُ	اَفْضَرُ	واحد	مذکر
اَفْضَرَيْنِ	اَفْضَرَيْنِ	اَفْضَرَانِ	ثنیہ	"
فَضْرٍ	فَضْرًا	فَضْرٌ	جمع	"
فَضْرَاءُ	فَضْرَاءُ	فَضْرَاءُ	واحد	مؤنث
فَضْرَوَيْنِ	فَضْرَوَيْنِ	فَضْرَوَانِ	ثنیہ	"
فَضْرٍ	فَضْرًا	فَضْرٌ	جمع	"

حُر	نصب	رفع	عدد	حُور-أَحُورُ
أَحُورُ	أَحُورَ	أَحُورُ	واحد	مذکر
أَحُورَيْنِ	أَحُورَيْنِ	أَحُورَانِ	ثنیہ	"
حُورٍ	حُورًا	حُورٌ	جمع	"
حُورَاءَ	حُورَاءَ	حُورَاءُ	واحد	مؤنث
حُورَوَيْنِ	حُورَوَيْنِ	حُورَاوَانِ	ثنیہ	"
حُورٍ	حُورًا	حُورٌ	جمع	"

مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں میں (i) صِنت (ii) صیغہ (عدد و جنس) بیان کریں۔ اور اردو میں ترجمہ کریں۔

۱. أَنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ (البقرہ: ۶۹)

Samra Khalil Uppal

حرف ضمیر (مربک تصنیفی) مرفوع

شبه منصوبہ + اسم ان + خبر ان = جملہ اسمیہ تاکیدی۔

صَفْرَاءُ = اسم الوان، واحد مؤنث، مرفوع بوجہ خبر

ترجمہ: بے شک وہ ایک زرد گائے ہے۔

۲. وَنَزَعُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ (الاعراف: ۱۰۸)

حرف فعل + مفعول + حرف ضمیر متبدل + خبر + متعلق خبر (مربک جاری)

عطف ماضی بہ عطف ظرف جملہ فعلیہ

بَيْضَاءُ = اسم الوان، واحد مؤنث، مرفوع بوجہ خبر

ترجمہ: اور اُس نے اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو دیکھنے والوں کیلئے وہ سفید ہو گیا۔

(۵۶/۳)

۳ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَتْبَكُمُ لَدَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل: ۷۶)

حرف فعل ماضی اسم اسم اسم مرکب اضافی + اسم حرف فعل خبر مجرور
عطف مرفوع منصوب منصوب مرفوع مرفوع نفی مضارع مرکب جاری
فاعل + مفعول بہ مفعول مبتداء + خبر + هو + متعلق فعل

جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ نافیہ

اِتْبَكُمُ = اسم العیوب، واحد مذکر، مرفوع بوجہ خبر

ترجمہ: اور اللہ دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کرتا ہے، دونوں میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔

۴ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (طہ: ۱۰۲)

حرف فعل مضارع اسم منصوب اسم ظرف اسم منصوب
عطف فاعلی ضمیر مخن + مفعول بہ + مفعول ضمیہ + حال (فاعل)

جملہ فعلیہ

زُرْقًا = اسم الوان والعیوب، جمع مذکر، منصوب بوجہ حال

ترجمہ: اور اُس دن ہم مجرموں کو آنکھیں نیلی پڑ جانے والی حالت میں (وحشت سے) جمع کریں گے۔

۵ لَيْسَ عَلَى الدَّاعِي حَرْجٌ وَ عَلَى الدَّاعِرِ حَرْجٌ (النور: ۶۱)

فعل ماضی (جبر مجرور) اسم مرفوع حرف (جبر مجرور) اسم مرفوع
جامد (هو) قائم مقام خبر اسم لیس قائم مقام خبر + اسم لیس

جملہ اسمیہ

جملہ اسمیہ

(۵۶/۳)

اللَّعْمَى = اِسْمُ الْعَيُوبِ واحد مذکر مجرور بوجه حرف جر
 اللّٰعْرَجُ = اِسْمُ الْعَيُوبِ واحد مذکر مجرور بوجه حرف جر
 ترجمہ: اور اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے اور لنگڑے پر کوئی
 تنگی نہیں ہے۔

۶ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا (یس: ۸۰)

اِسْمُ فِعْلٍ مَاضِي جَرَّ مَجْرُورِ جَرٍّ + مَجْرُورٍ (مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ) اِسْمٌ مَنْصُوبٌ
 مَوْصُولَةٌ + فِعْلٌ + مُتَعَلِّقٌ فِعْلٌ + مَفْعُولٌ بِهِ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ - جِدَلَةٌ

الْأَخْضَرِ = اِسْمُ الْوَانِ واحد مذکر مجرور بوجه حرف جر
 ترجمہ: وہ (ذات) جس نے سرسبز درخت سے آگ بنائی۔

۷ كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرًا (المزملات: ۳۳)

حَرْفٌ حَرْفٌ + ضَمِيرٌ (اِسْمٌ مَرْفُوعٌ + حَبْلَةٌ) اِسْمٌ مَرْفُوعٌ
 تَشْبِيهٌُ بِالْفِعْلِ كَأَنَّ اِسْمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَرْفُوعٌ
 جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبْرٌ أَنَّ -

صُفْرًا = اِسْمُ الْوَانِ جمع مذکر مرفوع بوجه خبر
 ترجمہ: گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔